



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة الطور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالطُّورِ

قسم ہے طور کی،

.1

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ

اور لکھی کتاب کی

.2

فِي رَاقٍ مَّنشُورٍ

کشادہ ورق میں،

.3

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

اور (قسم ہے) آباد گھر کی،

.4

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

اور اونچی چھت کی،

.5

.6

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

اور ابلتے (موجزن) دریا کی،

.7

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

بیشک عذاب تیرے رب کا (واقع) ہونا ہے۔

.8

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا۔

.9

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا

(واقع ہوگا) جس دن لرزے آسمان کپکپا کر،

.10

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

اور پھریں پہاڑ چل کر۔

.11

فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ

سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی،

.12

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ

جو (آج) باتیں بناتے ہیں کھلتے۔

.13

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً

جس دن دھکیلے جائیں دوزخ کو دھکیل (دھکے مار) کر۔

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

(کہا جائے گا) یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے،

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

اب بھلا یہ جادو ہے، یا تم کو نہیں سوچتا؟

أَصْلَوْهَا فَأَصْدِرُوا أَوْ لَا تَصْدِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ<sup>ص</sup>

بیٹھو (جاؤ) اس میں، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو، تم کو برابر ہے۔

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

جو ڈروالے (متقی) ہیں، باغوں میں ہیں اور نعمت میں،

فَكِهِينَ بِمَاءٍ أَنْهَمُ رَبُّهُمْ

میوے کھاتے، جو دیئے ان کے رب نے،

وَوَقَلَهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کی مار (عذاب) سے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کھاؤ اور پیو ریح (مزے) سے، بدلہ اس کا جو کرتے تھے،

مُتَّكِنِينَ عَلَى اسْرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ<sup>ص</sup>

(وہ) لگے بیٹھے تختوں (مسندوں) پر، برابر تجھے قطار (قطار اندر قطار)۔

وَزَوَّجَتْهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں، بڑی آنکھوں والیاں۔

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِنَا إِنَّا نَحْنُ ذُرِّيَّتُهُمْ

جو یقین لائے، اور ان کی راہ چلی ان کی اولاد ایمان سے، پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو،

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ<sup>ج</sup>

اور گھٹایا نہیں ان سے ان کا کیا کچھ۔

كُلُّ أَمْرٍ إِتْمَانًا كَسْبَ رَهِينٍ

ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا (رہن) ہے۔

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَاتٍ وَالْحَمِّ تَمَّائِشْتَهُونَ

اور ریل لگا دیئے (دیئے چلے جائیں گے) ہم نے میوے اور گوشت، جس چیز کا جی چاہے۔

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَالْعَوْفِ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ

جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بکنا (بیہودہ بات) ہے اس شراب میں نہ گناہ میں ڈالنا،

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھو کرے ان کے، گویا وہ موتی ہیں غلاف میں دھرے۔

.25

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

اور منہ کیا ایکوں (ایک جیسوں) نے دوسروں کی طرف، آپس میں پوچھتے،

.26

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

بولے ہم بھی تھے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے،

.27

فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ

پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور بچایا ہم کو لوہوں (جھلسادینے والی ہوا) کے عذاب سے۔

.28

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ<sup>ط</sup>

ہم آگے سے (پچھلی زندگی میں) پکارتے تھے اس کو۔

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

بیشک وہی ہے نیک سلوک رحم والا۔

.29

فَذَكِّرْ

(اے پیغمبر!) اب تو سمجھ (نصیحت کرتے رہو)

فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا لَجْنُونَ

کہ تو اپنے رب کے فضل سے پر یوں والا (کاہن) نہیں نہ دیوانہ۔

.30

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ۗ رَائِبُ الْمُنُونِ

کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم راہ دیکھتے (انتظار کرتے) ہیں اس پر گردش زمانے کی۔

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ

تو کہہ، تم راہ دیکھو (انتظار کرو)، کہ میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا

کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں ان کو،

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ

یا وہ لوگ شرارت پر ہیں؟

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

یا کہتے ہیں کہ یہ بات بنا (قرآن گھڑ) لایا؟

بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ

کوئی نہیں! پر ان کو یقین نہیں؟

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

پھر چاہیے لے آئیں کوئی بات (کلام) اسی طرح کی، اگر وہ سچے ہیں۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

کیا وہ بن گئے (پیدا ہوئے) ہیں آپ ہی آپ یا وہی (خود ہی) ہیں بنانے (خالق) والے؟

أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

یا انہوں نے بنائے آسمان اور زمین؟

بَلْ لَا يُوقِنُونَ

کوئی (ہرگز) نہیں! پر یقین نہیں کرتے۔

.37

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ لَهُمُ الْمَصْيُطُونَ

کیا انکے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی داروغے ہیں (ان پر)؟

.38

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ

کیا ان پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سُن آتے ہیں؟

فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ

تو لے آئے جو سنتا ہے ان میں ایک سند کھلی۔

.39

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ

کیا اس (اللہ) کے ہاں بیٹیاں اور تمہارے ہاں بیٹے؟

.40

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّعْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ نیک (اجر)! سو ان پر چٹی کا بوجھ ہے۔

.41

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ

کیا ان کو خبر ہے بھید (غیب) کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں؟

.42

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا

کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا؟

فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ

سو جو منکر ہیں، وہی آتے ہیں داؤ میں۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

وہ اللہ نرالا (پاک) ہے ان کے شریک بتانے سے۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا، کہیں یہ بدلی ہے گاڑھی۔

فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ

سو (اے نبی) تو چھوڑ دے ان کو جب تک ملیں اپنے دن سے، جس میں ان پر کڑا کا (سختی) پڑے گا۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ کچھ، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور ان گناہگاروں کو ایک مار ہے اس سے ورے (پہلے)، پر وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

اور تو ٹھہراہ منتظر اپنے رب کے حکم کا کہ تو ہماری آنکھ کے سامنے ہے،



وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

اور پاکی بول (تسبیح کر) اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی، اور پیٹھ دیتے (پلٹتے) وقت تاروں کے۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u\_com@yahoo.com